

Retribution 26. مکافات عمل

انسانیت کی تقسیم Division of Humanity

1. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢/٢﴾
وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ ﴿٢/٢﴾

He it is Who created you, but one of you is an unbeliever and another of you is a believer; and Allah sees what you do. ﴿٦٤﴾ (64: At-Taghabun \2)

2. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۗ نَّبْتَلِيْهِ فَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۗ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ﴿٧٦﴾

ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا ﴿٧٦﴾ (اور) اسے رستہ بھی دکھا دیا۔ (ب) وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکر۔ ﴿٧٦﴾ (E: 76 / Ad-Hur / 2-3)

Surely We have created man from a small life-germ uniting: We mean to try him, so We have made him hearing, seeing. ﴿٧٦﴾ Surely We have shown him the way: he may be thankful or unthankful. ﴿٧٦﴾

(76:Al-Insan / Ad-Dahr \2-3)

3. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾

جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے ﴿٥٥﴾

(8: E / 55)

For the worst of beasts in the sight of Allah are those who disbelieve Him: They will then not believe. ﴿٥٥﴾ (8: Al-Anfal \55)

اعمال کا بدلہ Reward for Deeds

1. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۗ وَالَّذِيْ حَبَتْ لَّا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ط كَذٰلِكَ نَصْرَفُ الْاَيْتِ لِقَوْمٍ لَّا يَشْكُرُوْنَ ﴿٥٥﴾
جو زمین پاکیزہ (ہے) اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے (نفس ہی) نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس

میں جو کچھ ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لئے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ﴿

(7: c/58)

And from the good land its vegetation comes forth by the permission of its Lord. but from the inferior land what comes out is nothing but niggardly. Thus do we repeat the verses to those who are grateful. ﴿

(7: Al-A'raf\ 58)

2. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿

تو جس نے ذرہ بھرنیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا ﴿ اور جس نے ذرہ بھربرائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ﴿

﴿ (99: 7/â -7)

Then shall anyone who has done an atom's weight of good, see it!

﴿ And anyone who has done an atom's weight of evil, shall see it. ﴿

(99: Az-Zilzal\ 7-8)

3. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِ بِهِ ۖ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿

جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی (طرح) کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوانہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ

مددگار ﴿ اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہو گا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں

گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ﴿ (4: 123/124 - 124)

Whoever works evil, will be requited accordingly. Nor will he find, besides Allah, any protector or helper. ﴿ And whoever does good deeds, whether male or female - and is a believer, they will enter Gardens and they will not be dealt with unjustly. ﴿ (4: An-Nis'a\ 123-124)

4. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے

کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ ﴿ (2: 286/286)

Allah does not place on any soul a burden greater than it can bear.

For it is that it earns and against it is that it earns ﴿ (2: Al-Baqarah\ 286)

5. وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا

اَلتَّسْبِيْنُ ط وَاَسْأَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور اللہ سے اس کا فضل (و کریم) مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ﴿4: 32﴾

And covet not that by which Allah has made some of you to excel others: To the men is the benefit of what they earn, and to women what they earn. And ask Allah of His bounty. Indeed Allah is ever Knowing of all things. ﴿4:An-Nis'a\ 32﴾

6. وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوْا ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے ہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ ﴿6: 132/b﴾

(132/b :6)

And for all are degrees according to their deeds: for your Lord is not unmindful of anything that they do. ﴿6: Al-Ana'm\ 132﴾

7. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

اور جو کوئی (اللہ کے حضور) نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی دس نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا اسے سزا

ویسے ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ﴿6: 160/b﴾

He who does good shall have ten times as much to his credit. And who does evil shall only be recompensed according to his evil. And they will not be wronged. ﴿6:Al-Ana'm\ 160﴾

8. مَنِ اهْتَدَىٰ فَاَنفُسُهُۥٓ وَوَزْرًاۙ وَوَزْرًاۙ وَوَزْرًاۙ وَمَنْ ضَلَّ فَاَنفُسُهُۥٓ وَوَزْرًاۙ وَوَزْرًاۙ وَوَزْرًاۙ وَمَا

كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لئے اختیار کرتا ہے۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا۔ اور کوئی

شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ ﴿15: 17﴾

(15: 17)﴾

Who goes aright , he goes for himself, who goes astray he goes so to his detriment. No bearer of burdens can bear the burden of another: nor would We chastise until We had sent a messenger. ﴿15: 17﴾

9. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾

ان کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا۔ اور جو عمل وہ کرتے تھے، اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ ﴿2: 2﴾ (131/ 2)

They shall reap the fruit of what they did, and you of what you do.

You will not be questioned about what they did. ﴿2:Al-Baqarah\ 141﴾

10. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دے دیں گے۔ اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ ﴿42: § 20﴾

Whoso desires the tilth of the Hereafter, We give increase in his tilth and whoso desires the tilth of this world, so We give him thereof, and he has no share in the Hereafter. ﴿42:Ash-Shura\ 20﴾

11. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لئے اس سے بہتر (بدلہ تیار) ہے اور ایسے لوگ (اس روز) گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے ﴿89﴾ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ تم کو تو ان ہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ﴿27: 89-90﴾

Whoever brings good will have better there from and they will be secure from terror that day. (89) And whoever brings evil, will be thrown down on their faces into the Fire. "Are you rewarded other than what you did?" ﴿27: An-Naml\ 89-90﴾

12. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَنُوبُونَ ﴿٩٤﴾

جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہو گا تو اس کی کوشش رائیگاں نہ جائے گی۔ اور ہم اس کے لئے (ثواب اعمال) لکھ رہے ہیں۔ ﴿21: q 94﴾

Whoever does a good deed and he is a believer, his endeavour will not be rejected: We surely record it down for him. ﴿21:Al-Anbiya\ 94﴾

13. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةًۦۙ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت وہ مومن بھی ہو گا تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے اور (آخرت میں) اُن کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ ﴿٩٧﴾ (16: An-Nahl\ 97)

Whoever does good deeds, man or woman, and is a believer, verily, to him We will give a good life to live. We certainly will give their reward for the the best they did. ﴿٩٧﴾ (16: An-Nahl\ 97)

14. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَجَّزِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

اور جو شخص دنیا میں (اپنے اعمال کا) بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں طالبِ ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب (بہت اچھا) صلہ دیں گے۔ ﴿١٤٥﴾

(3: A'1-e-Imran\ 145)

And whoever desires a reward in this life, We shall give it to him and whoever desires a reward in the Hereafter, We shall give it to him. And We shall shortly reward the grateful. ﴿١٤٥﴾ (3: A'1-e-Imran\ 145)

15. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾

جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے (اور) اسے اڑالے جائے (اس طرح) جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی۔ یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔ ﴿١٨﴾ (14: Ibrahim\ 18)

The parable of those who disbelieve in their Lord is that their works are as ashes, on which the wind blows furiously on a tempestuous day: They will have no power over what they have earned. That is the straying far. ﴿١٨﴾ (14: Ibrahim\ 18)

16. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ۗ سَوَآءٌ قَدِيْمُهُمْ وَمَا بَدَّلْنَاهُمْ سَاءَ مَا يَكْفُرُونَ ۗ وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَلَيُجْزِيَنَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٨٠﴾

جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل

نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں ﴿﴾ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ﴿﴾ (45: 21-22)

Do those who seek after evil ways think that We shall make them equal with those who believe and do good, - their life and their death being equal. Ill is what they judge. ﴿﴾ And Allah created the heavens and the earth with truth and in order that each soul may find the recompense of what it has earned, and none of them be wronged. ﴿﴾ (45: Al-Jasiyah\ 21-22)

17. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۖ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَانَمَا أَغْشَيْتُ وُجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿﴾

جن لوگوں نے نیکو کاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور (مزید برآں) اور بھی اور ان کے مونہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی۔ یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿﴾ اور جنہوں نے برے کام کئے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا۔ اور ان کے مونہوں پر ذلت چھا جائے گی۔ اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے مونہوں (کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان) پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھادیئے گئے ہیں۔ یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ﴿﴾ (10: 26-27)

For those who do good is good – and more. Neither darkness nor shame shall cover their faces! they are the people of Garden; they will abide therein (for ever)! ﴿﴾ But those who have earned evil will have a reward of like evil: ignominy will cover their (faces). They will have none to protect them from Allah. As their faces have been covered with pieces of the dense darkness of night: they are companions of the Fire: they will abide therein for ever. ﴿﴾ (10: Yunas\ 26-27)

18. أَلَا تَوَرَّ وَازِرَةً وَّزَرَ أَخْرَىٰ ﴿﴾ وَأَنْ تَسْعَىٰ ۗ وَأَنْ تَسْعَىٰ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰ الْجَزَاءَ الْآوْفَىٰ ﴿﴾

یہ کہ کوئی شخص دوسرے (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ﴿﴾ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ﴿﴾ اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی ﴿﴾ پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ﴿﴾

(31-38/ 3 :53)

That no bearer of burden shall bear the burden of another- ﴿﴾ And

that man shall have nothing but what he strives for- (39) And that his striving shall soon be seen- ﴿ Then shall he be rewarded for it with the fullest reward- ﴿ (53: An-Najm\ 38-41)

19. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا ﴿

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے جب ان کی کھالیں گل
(اور جل) جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ (ہمیشہ) عذاب (کامزہ چکھتے) رہیں بے شک اللہ غالب حکمت والا
ہے ﴿ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی
ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لئے پاک بیبیاں ہیں اور ان کو ہم گھسنے سائے میں داخل کریں گے ﴿
(4: ` 56/ 57-56)

Those who deny our revelations, We shall soon cast them into the Fire: as often as their skins are roasted through, We shall change them for fresh skins, that they may taste the penalty. Verily Allah is Mighty, Wise. ﴿ And those who believe and do good deeds, We shall soon admit them to Gardens, with streams flowing beneath, - their eternal home: Therein shall they have companions pure and holy and We shall admit them to pleasant shades. ﴿ (4:An-Nis'a\ 56-57)

People of Heaven

جنتی لوگ

1. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں

نہریں بہہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ﴿١٣﴾ (4: An-Nis'a)

And whoever obeys Allah and His Messenger will be admitted to Gardens with streams flowing beneath, to abide therein for ever and that will be the supreme achievement. ﴿١٣﴾ (4: An-Nis'a)

2. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ ﴿٢٩﴾ (13: Ar-Ra'd)

Those who believe and do good, for them is (every) blessedness, and a beautiful place of (final) return.” ﴿٢٩﴾ (13: Ar-Ra'd)

3. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٧﴾

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو

ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ ﴿١٧﴾ (17: Al-Isra/Bani-Israeal)

Those who do wish for the Hereafter, and strive there for with all due striving, and are believers. They are the ones whose striving is acceptable (to Allah). ﴿١٧﴾ (17: Al-Isra/Bani-Israeal)

4. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتغىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَبَائِهِمْ

وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ

الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے ﴿١﴾ جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں ﴿٢﴾ اور جو بیہودہ باتوں سے منہ

موڑے رہتے ہیں ﴿٣﴾ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ﴿٤﴾ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ﴿٥﴾ مگر اپنی بیویوں

سے یا (کنیزوں سے) جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ (ان سے) مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں ہے اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ (اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے) نکل جانے والے ہیں اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہ ہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں (یعنی) جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے۔ اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ﴿23: s/1-11﴾

Successful indeed are the believers. Who humble themselves in their prayers; Who avoid what is vain. Who are active in deeds of charity; Who restrain sexual passions. Except with their mates, or whom their right hands possess,- for such they are not blamable. But those whose desires beyond that are transgressors;- Those who faithfully observe their trusts and their covenants; And who guard their prayers;- These will be the heirs, Who will inherit Paradise: they will dwell therein for ever. (23: Al-Muminun1-11)

5. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (یہ) اس کا بدلہ (ہے) جو وہ کیا کرتے تھے۔ ﴿46: Al-Ahqaf\ 13-14﴾

Verily those who say, "Our Lord is Allah," and remain firm, - on them shall be no fear, nor shall they grieve. Such shall be companions of the Gardens, dwelling therein for ever, a recompense for their deeds. (46: Al-Ahqaf\ 13-14)